

برائے فوری اجراء

گلوبل کووینینٹ آف میئرز فار کلانیٹ اینڈ انرجی شو کیس سٹیز پائلٹ کے بعد سٹی کو موسمیاتی تبدیلی کے متعلق مقامی درجے کے اقدامات میں رہنماء تسلیم کر لیا

برامپٹن، آن (3 فروری 2021) – برامپٹن کینیڈا کی ان 25 میونسپلٹیوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے گلوبل کووینینٹ آف میئرز فار کلانیٹ اینڈ انرجی (GCoM) شو کیس سٹیز پائلٹ مکمل کیا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کے متعلق مقامی درجے کے اقدامات پر مرکوز ایک انتہائی نوعیت کا ایک سالہ پروگرام ہے۔ سٹی آف برامپٹن کو موسمیاتی تبدیلی کو روکنے میں اپنی کوششوں کے نتیجے میں ایک مٹیگیشن بیج موصول ہوا ہے۔

مٹیگیشن بیج سے ایسے شہروں کو نوازا جاتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گرین ہاؤس گیسوں کے استعمال کی ایک انویٹری مکمل کرتے ہیں، اخراج کے اہداف مقرر کرتے ہیں اور ایک منظور شدہ مٹیگیشن پلان کے حامل ہوتے ہیں، جیسے برامپٹن [کامیونٹی انرجی اینڈ ایمیشنز ریڈکشن پلان \(CEERP\)](#)۔

برامپٹن کو اگست 2019 میں GCoM کینیڈا کی زیر قیادت پہلے شو کیس سٹیز کے گروہ میں شمولیت کے لیے منتخب کیا گیا، جس کے تحت سٹی کو مقامی درجے پر موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات شروع کرنے کے لیے مفت معاونت موصول ہوئی، بشمول تکنیکی معاونت، تربیت، نیٹ ورکنگ کے خصوصی مواقع اور موسمیاتی اہداف کے حصول کے لیے ٹولز اور وسائل تک رسائی۔

سٹی آف برامپٹن کا GCoM کے ساتھ یہ تعلق برامپٹن کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے شہر کی بنیادوں پر قیادت کے وسیع ترین عالمی اتحاد سے مربوط کرتا ہے، جو چھ براعظموں سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا کے 800 ملین سے زائد شہریوں کی نمائندگی کرنے والے 10,000 شہروں اور مقامی حکومتوں کے وعدوں پر کام کرتا ہے۔

GCoM کینیڈا فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز (FCM)، ICLEI-لوکل گورنمنٹ فار سسٹینیبلٹی، گلوبل کووینینٹ آف میئرز سیکریٹریٹ اور یورپین یونین کے مالی تعاون کی حامل انٹرنیشنل اربن کوآپریشن پراجیکٹ کے درمیان اشتراک سے بنی ہے۔

نکس

- [برامپٹن ایک عالمی ماحولیاتی مقصد کے حامل ایک انتہائی نوعیت کے پائلٹ کے لیے منتخب ہونے والی 25 کینیڈین میونسپلٹیوں میں شامل ہے](#)
- [کمیونٹی انرجی اینڈ ایمیشنز ریڈکشن پلان \(CEERP\)](#)
- [گلوبل کووینینٹ آف میئرز](#)

اقتباسات

"برامپٹن کو اس پائلٹ میں شرکت کر کے قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقامی درجے کی ماحولیاتی اقدامات میں رہنماء کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہمیں شو کیس سٹیز پائلٹ مکمل کرنے والی 25 میونسپلٹیوں میں سے ایک ہونے پر فخر ہے اور ہم کینیڈا کے ماحولیاتی اہداف پر پورا اترنے، گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لانے اور آخر کار، عالمی ماحولیاتی تبدیلی کے لیے عملی اقدامات کرنے کے لیے استحکامیت اور کم کاربن والے سلوشنز کے لیے وقف ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہم برامپٹن میں ماحولیاتی اقدامات میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے کاربن فٹ پرنٹ پر حقیقی اثر ڈال رہے ہیں۔ CEERP کے ذریعے، ہم ایک زیادہ ماحول دوست ٹرانزٹ نیٹ ورک اور زیادہ چلنے کے قابل علاقے بنا رہے ہیں، عمارتوں کے ریٹروفٹس اور مزید چیزوں کا اطلاق کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے شہر میں ایک اہم اور پرجوش وقت ہے۔ اس اعزاز کے لیے GCoM اور اس تبدیلی کا اب تک حصہ بننے والے ہر شخص کا شکریہ۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے، جو برامپٹن میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 2050 تک 80 فیصد کم کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ ہمارے پرعزم اور تبدیلی کن CEERP میں توانائی کی بچت والے گھر اور عمارتوں، ماحول دوست توانائی کی پیداوار، برامپٹن کے ٹرانزٹ نیٹ ورک کو بڑھانے، ٹریلز اور سائیکلوں کے انفراسٹرکچر اور مزید کے لیے اہداف موجود ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اس سفر میں شو کیس سٹیٹز پائیلٹ ایک سنگ میل ہے۔"

- ڈوگ ولہینز، سٹی کونسلر وارڈز 2 اور 6؛ برامپٹن کا نمائندہ برائے گلوبل کووینینٹ آف میئرز فار کلائیمٹ اینڈ انرجی؛ ممبر، CEERP کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ استحکامیت، کم کاربن والے سلوشنز اور برامپٹن کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ ماحولیاتی اقدامات میں ایک میونسپل رہنماء کے طور پر اثر پیدا کیا جا سکے۔ ہم تعاون کرنے والے، آگے سوچنے والے اور ایک ماحول دوست شہر کے طور پر برامپٹن کے سفر میں پرعزم ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"میونسپلٹیاں کم کاربن والے سلوشنز میں رہنما کردار ادا کر رہی ہیں—عمارتوں کے ریٹروفٹس سے لے کر ماحول دوست ٹرانزٹ فلٹس تک۔ اور جیسا کہ میونسپلٹیاں برامپٹن کے GHG کے آدھے اخراج کو متاثر کرتی ہیں، مقامی سلوشنز کو بڑے پیمانے پر لانا کینیڈا کے ماحولیاتی اہداف پر پورا اترنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم برامپٹن کو سہاوتے ہیں کہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو حل کرنے اور اپنے گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو کم کرنے کے لیے براہ راست اقدامات اٹھائے۔"

- گارتھ فرزیل، FCM پریزیڈنٹ

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca